

## فطرے کی مقدار – 11 / May / 2021

سوال: ہر فرد کے لئے فطرے کی مقدار کتنی ہے؟

جواب: ضروری ہے کہ انسان اپنے اور ہر اس شخص کے لئے جو اس کے زیر کفالت ہے، ہر فرد کے لئے ایک صاع ( تقریباً 3 کلو) گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول یا مکئی وغیرہ بطور فطرہ مستحق کو ادا کرے اور اگر ان میں سے کسی ایک کی قیمت بھی ادا کر دے تو کافی ہے۔